

طالب علم کی معذوری کی حالت کی تصدیق کے لئے کمیٹی ڈی پی سی ایم کے 23 فروری 2006 کے قانون کی 185 نمبر شق کے تحت

گھر والوں کی توجہ کے لئے

اس خط کے ساتھ آپ کو تین نقول میں طالب علم کی معذوری کی تشخیص کی تصدیق کے لئے مقرر کمیٹی کی رپورٹ دی جا رہی ہے۔
آپ کو مدعو کیا جاتا ہے:

(1) آج دی گئی رپورٹ کی ایک نقل اپنے دستاویزات میں رکھیں

(2) بچے کے سکول میں رپورٹ کی ایک نقل فعال تشخیص کے ساتھ جمع کروائیں، تاکہ سکول خود ہی سکول کے ماحول میں شامل کرنے کے لئے مناسب مدد کے لئے متوقع انتظامات کر سکے (مدد کے لیے استاد سکول کے دفتر کی طرف سے اور/یا امدادی ماہر تعلیم رہائش گاہ کی میونسپلٹی کی جانب سے، سکول کا سامان صوبے کے ضلع) "امدادی ماہر تعلیم" کی ضرورت کی صورت میں ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہوگی کہ رشتے دار کی طرف سے دستخط کردہ فعال تشخیصی فارم کا استعمال کرتے ہوئے رپورٹ کی ایک نقل میونسپلٹی میں بھجوائیں۔

(3) رپورٹ کی ایک نقل، تصدیق کی درخواست کے ساتھ، طبی ماہر (بچوں کے دماغی مسائل کے وارڈ، آئی آر سی سی ایس، خاندانی مشاورتی مرکز ...) کو دیں جنہوں نے سرٹیفیکیٹ اور باضابطہ تشخیص تیار کی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ تصدیق نامے کے ختم ہونے کی تاریخ (رپورٹ کے آخر میں دی گئی ہے) پر بھی نظر رکھیں، تاکہ مناسب وقت میں، اگر آپ اتفاق کرتے ہوں تو ماہرین کے ساتھ بیٹے/بیٹی کی حالت کا طبی جائزہ لیا جائے اور مل کر اے ایس ڈی پاپا جوانی 23 کو تصدیق کی تجدید کی درخواست دینے کی ضرورت پر غور کیا جا سکے۔

آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ، کمیٹی کے فیصلے کے خلاف، رپورٹ ملنے کے 30 دن کے اندر اندر اے ڈی ایس کے سماجی طبی مرکز میں خاص فارم (MCoIAc05) کے ذریعے اپیل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مندرجہ ذیل طریقے سے نئی تصدیقی اسناد اور فعال تشخیص کو شامل کریں:

- بذات خود اے ڈی ایس کے ویا گالیچولی نمبر 4 بیرگامو میں واقع پروٹوکول دفتر میں (صبح 8:30 سے 12:30 تک اور دوپہر 13:30 سے 16:00 تک)

ای میل کے ذریعے، صرف اور صرف ایک تصدیق شدہ ای میل ایڈریس (پی ای سی) کے ذریعے، اس ای میل ایڈریس پر

protocollo@pec.ats-bg.it

بہت زیادہ نیک تمنائیں

مینجر

ڈاکٹر پیٹرو زونکیڈو

یو او ایس ڈی معذوری اور آٹزم کا حصہ۔ اے ایس ایس ٹی پاپا جوانی 23
ویا بورگو پالاسو، 130-24125 بیرگامو

کارروائی کا متعلقہ افسر: ڈاکٹر پیٹرو زونکیڈو
مجاز افسر: مادالینا بادونی۔ چنریا والوتی
فون۔ 0352676490؛ ای میل: disabilita.autismo@asst-pg23.it